

4 اپریل 2018

تقریبات کے شعبے میں سٹی آف برامپٹن کی شاندار کارکردگی کا اعتراف کر لیا گیا برامپٹن کے پانچ تہوار اور تقریبات اونٹیریو کے چوٹی کے 100 ناموں میں شامل

برامپٹن، آن - حال ہی میں، برامپٹن کے پانچ تہواروں اور تقریبات کا نام اونٹیریو کے چوٹی کے 100 ناموں میں شامل کر کے، تقریبات کے شعبے میں سٹی آف برامپٹن کے قائدانہ کردار کو تسلیم کیا گیا ہے۔

فیسٹیولز اینڈ ایونٹس اونٹیریو (FEO) نے چوٹی کے 100 ناموں کی اپنی سالانہ فہرست کا اعلان کیا ہے اور اس فہرست میں 2018 کے لیے برامپٹن کے درج ذیل تہواروں کو شامل کر لیا گیا ہے:

- سیلی برامپٹن: ہفتہ، 9 جون 2018
- برامپٹن سیلیبریٹس کینیڈا ڈے: اتوار، 1 جولائی 2018
- ریممبرینس ڈے پریڈ اینڈ سروس: اتوار، 11 نومبر 2018
- کرسمس ٹری لائٹنگ: جمعہ، 16 نومبر، 2018
- برامپٹن نیو ایئرز ایوو: پیر، 31 دسمبر 2018

برامپٹن کے تمام تہواروں اور تقریبات کے بارے میں مزید معلومات یہاں ملاحظہ کریں www.brampton.ca/events

شہر بھر میں موجود قابل نظارہ اور لطف اندوز ہونے کی دیگر چیزوں کی مکمل فہرست کے لیے، چیک کریں [برامپٹن کا سرکاری ویب سائٹ](#)
گائیڈ برائے 2018

اقتباس:

"تقریبات کے شعبے میں فیسٹیولز اینڈ ایونٹس اونٹیریو کی جانب سے اپنے شہر کی عمدہ کارکردگی کو تسلیم کیے جانے پر ہم فخر محسوس کرتے ہیں۔ ایک نوجوان اور ثقافتی طور پر مرتعش شہر کے طور پر، برامپٹن میں ہر شخص کے لیے پورا سال منعقد ہونے والی تقریبات اور تہواروں کا ایک شاندار سلسلہ موجود ہے۔ برامپٹن میں ہمیشہ دلچسپی کا کچھ نہ کچھ سامان موجود رہتا ہے۔"

- میئر لندا جیفری

"اپنی کمیونٹیوں کو جوڑ کر رکھنے کی اہمیت کی پہچان ہی ہمارے لیے ایک ایسا جذبہ ہے جو ہمیں ہر سال اعلیٰ معیار کی تقریبات منعقد کرنے کی رغبت دلاتا ہے۔ تہواروں اور تقریبات کا انعقاد نہ صرف ہمارے شہر کی فعالیت میں اضافہ کرتا ہے، بلکہ ان کی جانب رہائشیوں، کاروباروں، سرمایہ کاروں اور سیاحوں کی رغبت کی وجہ سے ہماری معیشت پر بھی مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔"

- باب ڈارلنگ، ڈائریکٹر، اکنامک ڈیولپمنٹ اینڈ کلچر

-30-

برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔ ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے علیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عالمی کامیابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم متنوع اربن سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ہم برامپٹن کو ایک ایسے مربوط شہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نثر ہو۔ ہمیں فالو کریں [ٹویٹر](#) اور [فیس بک](#)۔ مزید جانیں www.brampton.ca

میڈیا کنٹیکٹ

نتالی سٹوگڈل
میڈیا کوارڈینیٹر
سٹی آف برامپٹن

natalie.stogdill@brampton.ca | 905.874.3654